

## **حالاتِ زندگی فارم ا** حصہ لینے سے قبل کی جسمانی تشخیص

| $\cup$    | ••                             |  | J 0                                 |  |                               |           |          |  |                |
|-----------|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|-----------|----------|--|----------------|
|           |                                |  |                                     |  |                               |           |          | توجہ طبی خدمات فراہم کنندہ سے ملاقات سے قبل مریض اور والدہ<br>رکھیں۔ یہ فارم شعبئہ ایتھا   |                |
|           |                                | # OSIS   |                                     | تاریخ پیدائش   | -,,,                          |           | 0        | ر میں ہوتی ہے۔ در ہے مصوبہ ہے۔<br>تحان کی تاریخ:   | امت            |
|           |                                |  | <br>کھیل                            |  |                               |           |          | ری نام پہلا نام  |                |
|           |                                |  | طهين                                |  |                               |           |          |  |                |
|           |                                |  |                                     |  |                               | کول کیہ   |          | س عمر گریڈ اسکول   | جن             |
|           |                                | ا بر سی بیچکس  | قديت) جم آپ آجکا.                   |  | <b>ور الرجي</b><br>اور اور اض |           |          | برائے مہربانی تمام تجاویز کردہ ادویات (prescription) اور خود خریدنے  |                |
|           |                                | ے رہے ہیں، درج حرین،   | حدری بو آپ آبحل                     | و کی ادویات رجنی بوتی اور  | ر بور بور .                   | . – 29    | , حی ،د  | برائے مہربی سے دبویر طرق (۱۳۵۰،۱۹۳۰) اور طود طریح  |                |
|           |                                |  |                                     |  |                               |           |          |  |                |
| نے<br>یں؟ | , سے لی <sub>ا</sub><br>سکتے ہ | کیا آپ اپنے ساتھ سانس<br>والی دوائی (ان ہیلر) رکھ<br>□ جی ہاں □ نہیں |                                     |  |                               |           |          |  |                |
|           |                                | کیا آپ کو ایپی پین (Pen<br>سے الرجی ہے؟ 🏻 جی ہار                     | :<br>سر کاٹنے والے کیڑے             | ۔صیل ذیل میں بیان کریں:<br>□ □ مض  | نی کی تف                      | ں الرج    | ہی کری   | ی <b>ا آپ کی کوئی الرجیز ہیں؟ □ جی ہاں □ نہیں</b> ااگر ہاں، برائے مہربانی نشاندہ<br>ا ادویات   | کی             |
|           |                                | ن پر دائرہ لگائیں  | ، معلوم نہیں، ا                     | ین کے حوایات آپ کو   | الات ح                        | . سه      | اىسـ     | " جی ہاں" کے جوابات ذیل میں تفصیل سے دیں۔  |                |
| جی نہیں   | جی ہاں                         | <u> </u>   | 0                                   |  | طبی سوالا                     |           |          |  | عاد            |
|           |                                | ۔<br>ہواری ہوتی ہے؟  | ٹ یا سانس لینے میں دش               | <b>ت</b><br>ب کو دوران ورزش کهانسی، خرخراہ   |                               |           | 7 0407   | ہ سودے۔<br>کیا آپ کو ڈاکٹر نے کبھی کھیلوں مِیں حصہ لینے سے کسی بھی وجہ سے منع کیا ہے؟  | .1             |
|           |                                |  |                                     | پ نے کبھی ان ہیلر یا دمہ کی دوائی  |                               | 3         |          | کیا آپکو فی الحال کوئی طبی مسائل ہیں؟ 🏻 دمہ 🖵 خون کی کمی 🖵 ذیابیطس   | .2             |
|           |                                |  | مہ ہے؟                              | ب کے اہل خانہ میں سے کسی کو دہ   | <b>29.</b> کیا آب             |           |          | 🔲 انفیکشن 🖵 سکل سیل (Sickle cell) یا ٹریٹ (trait) دیگر:  | _              |
|           |                                | ے (مردوں) کے، تلی کے یا  | ، ایک آنکھ کے، ایک خصی              | پ بغیر گردوں کے، یا ایک گردے کے،<br>عضو کے پیدا ہوئے ہیں؟  | <b>30.</b> کیا آب             | )         |          |  | .3             |
|           |                                |  |                                     | عصو نے پیدا ہوتے ہیں.<br>ب کو جانگیہ میں درد (گروئن پین) یا                                      |                               |           | جی ہاں   | 20% O Od. O  | -              |
|           |                                |  |                                     | ې کو جعیہ میں درد رحروس پین ی<br>ب کو پچھلے مہینے کے دوران وبائی ہ                               |                               |           | جی ہاں ج | کیا آپ کبھی ورزش کے دوران یا بعد میں ہے ہوش یا تقریباً ہے ہوش ہوئے ہیں؟  | <u>پ</u><br>5. |
|           |                                |  |                                     | پ کو کوئی کُھجلی، زخم کا دباو یا ج   |                               | 3         |          | کیا آپ کو کبھی سینے میں ورزش کے دوران ہے چینی، درد، کھچاو، یا سینے میں دباو ہوا ہے ؟   | .6             |
|           |                                |  |                                     | ې کو خارش یا MRSA جلدی وبائی ه   |                               | -         |          | کیا آپ کی دل کی ڈھرکن کبھی بھی آرام یا دورانِ ورزش تیز ہوئی یا کم ہوئی ہے؟   | .7             |
|           |                                |  |                                     | پ کو کبھی سر میں چوٹ یا دماغ <u>ی</u>  |                               | _         |          | کیا آپ کو کبھی بھی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو دل کا عارضہ ہے؟ اگر ایسا ہے، تو براہِ کرم ان تمام   | 8.             |
|           |                                | ے تذبذُب، ہمیشہ سر میں   |                                     | ٖ کو کبھی بغیر وضاحت کے دورہ پڑ<br>ٖ کو کبھی سر پر ایسی چوٹ یا مار<br>یاداشت کے مسائل پیدا ہوئے۔ |                               |           |          | قابل اطلاق پر نشان لگائیں۔ 🖵 اونچا فشارخون (ہائی بلڈ پریشر) 🗖 قلب میں گڑگڑاہٹ 🔲 بائی کولیسٹرول (infection) 🔲 قلب میں آلودگی (infection)                                    |                |
|           |                                |  | (                                   | پ کو دورے پڑنے کا مرض لاحق ہے؟   | <b>38.</b> کیا آب             | _         |          | ☐ کاواساکی (Kawasaki) مرض دیگر:  | 9.             |
|           |                                | l h l l·l  |                                     | کو مشق کے دوران درد سر ہوتا <u>ہے؟</u>   |                               | _         |          | ایکوکارڈیوگرام)<br>آ۔   کیا دوران ورزش آپ کو سر میں چکر یا درد یا توقع کے برخلاف سانس گھٹنے لگتی ہے؟   | 10             |
|           |                                | ر سَن ہوجانا، جھنجھناہت یا   | وت لکنے سے یا دِر جانے پ            | پ کو کبھی ہاتھوں یا ٹانگوں میں چر<br>پی ہوئی ہے؟   |                               | 1         |          |  | 11             |
|           |                                | ٹ ہوئی ہے؟   | <sub>ہ</sub> بعد حرکت کرنے میں رکاو | ب کو کبھی چوٹ لگنے یا گِر جانے کے  | <b>41.</b> کیا آر             |           |          | دشواری ہوتی ہے؟  |                |
|           |                                |  |                                     | ب کبھی گرمی میں مشق کرتے ہوئے  |                               |           |          | آ۔ کیا آپ کی کبھی دل کی سرجری ہوئی ہے؟   |                |
|           |                                |  |                                     | پ کو اکثر مشق کے دوران پٹھوں می<br>کی آنک  |                               | _         | جی ہاں ج |  |                |
|           |                                |  |                                     | ب کو آنکھوں یا بصارت کے کوئی مس<br>ب کو کبھی آنکھوں میں چوٹ لگی ت                                |                               |           |          | آ۔ کیا آپ کے اہل خانہ میں کسی کو دل کی غیر معمولی ڈھرکن ہے؟<br>آ۔ کیا آپ کے اہل خانہ یا رشتہ دار کی دل کے مسائل یا غیرمتوقع یا 50 سال سے قبل بغیر                          |                |
|           |                                |  |                                     | پ تو تبھی انتھوں میں چوت تنی ہے۔<br>ب عینک یا کونٹیکٹ لینس لگاتے ہیں                             |                               |           |          | ا کے ایک عام کانا یا راستا دار دی کان کے فسائل یا عیرمتوقع یا 30 سال سے قبل بغیر<br>وضاحت کے اچانک موت (بشمول مدہوشی، بغیر وضاحت کے کار کا حادثہ یا اچانک طفلی             |                |
|           |                                | ڈ کا استعمال کرتے ہیں؟   |                                     | ہ آنکھ کی حفاظت کے سامان جیسِ<br>ب   |                               | ·         |          | سنڈروم) واقع ہوئی ہے؟  | 4.5            |
|           |                                |  | مسائل ہیں؟                          | <mark>ٖ</mark> کو بہرے پن یا آپکو سماعت کے ہ   |                               | _         |          | آ۔ اکیا آپ کے اہل خانہ میں کسی کو دل کا مرض لاحق ہے یا پیس میکر (pacemaker) یا ڈی<br>فیبرہلیٹر (defibrillator) لگا ہوا ہے؟   | 15             |
|           |                                |  | ~                                   | پ کو اپنے وزن کی پریشانی ہے؟<br>-  |                               | _         |          | ۔<br>آ۔ کیا آپ کے اہل خانہ میں کسی کو بغیر وضاحت کے بے ہوشی، بغیر وجہ کا دورہ، یا تقریباً  | 16             |
|           |                                |  |                                     | پ چاہ رہے ہیں یا کسی نے آپ کو تج<br>کیئی مار سے ایا ا  |                               |           |          | مدہوشی ہوئی ہے   |                |
|           |                                | تناب در رہے ہیں:   |                                     | ب کوئی خاص غذا لے رہے ہیں یا چند<br>پ کو کھانے کی وجہ سے کوئی مسئا                               |                               | _         |          | ۔ کیا آپ کو یا آپ کے اہل خانہ میں کسی کو سکل سیل (sickle cell) کی خاصیت (trait) یا<br>مرض لاحق ہے  | 17             |
|           |                                | ٹر سے بات کرنا چاہتے ہیں؟  |                                     | پ کو کوئی ایسی تشویش ہے جس <i>آ</i>  |                               | _         | جی ہاں   |  | نڈو            |
|           |                                |  | •                                   | کے کوئی طبی مسائل ہیں؟   |                               |           |          | ً کیا آپ کو کبھی ہڈی، پٹھے (muscle)، بافتوں (ligament)، عصبی پٹھہ (tendon) میں چوٹ   | 18             |
| جی نہیں   | جی ہاں                         |  |                                     | یوں کے لیے   |                               |           |          | لگی ہے جسکی وجہ سے آپ مشقوں یا کھیل میں نہ جا سکے ہوں؟   | 10             |
|           |                                | <b>C</b> (1)   | (2424442)                           | پ کو کبھی حیض آیا ہے؟<br>کو کبھی حیض آیا ہے؟   |                               |           |          | آ۔ کیا کبھی آپ کی ہڈیاں ٹوٹی یا سکشتہ (fracture) ہوئی ہیں یا جوڑ اپنی جگہ سے ہٹیں ہیں؟   | -              |
|           |                                | ون بہنا) ہیں:  | د دهچاو(cramps)، ریاده ح            | پ کے حیض کے کوئی مسائل( شدید<br>وِ آخری حیض کب آیا تھا؟  |                               | _         |          | ۔ اکیا آپ کو ایسی چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایکس رے، ایم آر ائی، سی ٹی سکین،  <br>انجیکشن علاج، جوڑ (brace)، پلاستر یا بیساکھی کے ضرورت ہوئی ہو؟                       | 20             |
|           |                                |  |                                     | و احری حیص عب آب تھا:<br>حیض کتنے وقفے سے آتے ہیں؟   |                               |           |          |  | 21             |
|           |                                |  | کریں                                | ۔۔ و کے کے کے ایک ۔۔۔<br>" جوابوں کی یہاں وضاحت ک  |                               |           |          |  | 22             |
|           |                                |  |                                     | 7  |                               | _         |          | نے ایکس رے کرایا ہے؟ (پیدائشی دماغی خلل (Down syndrome) یا بونا پن (dwarfism))   | 23             |
|           |                                |  |                                     |  |                               |           |          | ۔ کیا آپ مستقل بریس (brace)، آرتھوٹِکس (orthotics) یا دیگر آلہ کا استعمال کرتے ہیں؟<br>۔ کیا آپ کو بڈی، پٹھے یا جوڑوں کی چوٹ ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے؟                   |                |
|           |                                |  |                                     |  |                               | _         |          |  | 25             |
|           |                                |  |                                     |  |                               |           |          | ک۔ کیا آپ کے کسی بھی جوڑوں میں درد، سوجن، گرمائش ہے یا سرخ دکھائی دے رہا ہے؟<br>۔  | 26             |
|           |                                |  |                                     | al: IC   |                               |           |          |  |                |
|           |                                |  |                                     | والدین / سرپرست کا نام   | سواهات                        |           |          | یں نے طبی تاریخ کا جائزہ لیا اور میں بذریعہ ھٰذا کہوں گا / گی کہ اپنی بہترین معلومات کے مطاب   |                |
|           |                                |  |                                     |  |                               |           |          | ے جوابات مکمل اور صحیح ہیں۔ میں کو اجازت دیتا / دیتی ہوں کہ ( <b>بجے ک</b><br>عائنہ کرایا جائے، جس میں ایک منی کی نالی (inguinal) اور خصئیے (testicular) کا معائنہ لڑکوں ہ |                |
|           |                                | تاريخ  |                                     | والدین / سرپرست کے دستخط   | ی یا میرا                     | ر آیا میر | وں کہ اگ | عائنہ لڑکیوں میں، شامل ہے. اگر یہ معائنہ اسکول کی طرف سے کرایا  کیا جاتا ہے، میں متفق ہو   | مع             |
|           |                                |  |                                     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ہ بچے کو                      | ور میرے   | ل کرنےار | چہ ان شعبوں کا معائنہ کرانے سے انکار کرتے ہیں، OSH طبی خدمات فراہم کنندہ آس فارم کو مکم<br>نہ کت کینے کے حملہ ترکینے سے قام دیر گا   |                |
|           |                                |  |                                     | . 07   |                               |           |          | نبرکت کرنے کی حمایت کرنے سے قاصر رہے گا۔   | w              |



NYC\_ED\_AAP\_PPE\_HISTORY\_FORM\_10102019

## PHYSICAL EXAMINATION FORM | Preparticipation Physical Evaluation

NOTE: The medical provider should keep this form in the student's medical file. This form does not get returned to the athletic department. Last Name First Name Date of Birth Grade School/Campus/ATSDBN OSIS# STUDENT'S HISTORY FORM REVIEWED BY MEDICAL PROVIDER YES NO PHYSICIAN REMINDER - Consider the questions below COMMENTS Do you feel safe at your home or residence? Do you feel safe at school? Do you ever feel stressed out or under a lot of pressure? Do you ever feel sad, hopeless, depressed, or anxious? Have there been any changes in your weight? Have you ever taken any supplements to help you gain or lose weight or improve your performance? Have you ever taken anabolic steroids or used any other performance supplement? Have you ever tried cigarettes, alcohol, or other drugs? During the past 30 days, did you use cigarettes, alcohol or other drugs? Are you sexually active? Are you using contraceptives? Do you wear a seat belt? **EXAMINATION** Height Weight ■ Male ☐ Female Pulse Vision Corrected BP R20/ L20/ ☐ Yes □ No NORMAL MEDICAL ABNORMAL FINDINGS **Appearance** Marfan stigmata (kyphoscoliosis, high-arched palate, pectus excavatum, arachnodactyly, arm span > height, hyperlaxity, myopia, MVP) Eyes/ears/nose/throat Pupils equal Hearing Lymph nodes **Heart**<sup>a</sup> Murmurs (auscultation standing, supine, +/- Valsalva) Location of point of maximal impulse (PMI) Simultaneous femoral and radial pulses Lungs Abdomen Genitourinary (males only)b HSV, lesions suggestive of MRSA, tinea corporis Neurologic<sup>c</sup> MUSCULOSKELETAL **NORMAL** ABNORMAL FINDINGS Neck Back (including scoliosis screening) Shoulder/arm Elbow/forearm Wrist/hand/fingers Hip/thigh Knee Leg/ankle Foot/toes **Functional**  Duck-walk, single leg hop Consider ECG, echocardiogram, and referral to cardiology for abnormal cardiac history or exam. GU exam must be done in a private setting; the presence of a third party/chaperone is needed. It should not be performed in mass participation settings. Consider cognitive evaluation or baseline neuropsychiatric testing if a history of significant concussion. I have examined the above named student and completed the pre-participation physical examination. The athlete may/may not participate in the sport(s) outlined on the Recommendations for Participation in Physical Education and Sports form. This form may be rescinded until the potential consequences of the health issue are explained to both the student and his/her parents, and the health issue has been resolved. All information and recommendations contained herein are valid through the last day of the month for 12 months from the date below. Name of medical provider (print/type) Date License/NPI Number Address Phone Signature of Medical Provider .MD/DO/NP/PA STAMP HERE



| Las  | st Name   | First Name  | OSIS   | <b>#</b>   | Grade                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Sch  | School/Campus/ATSDBN  |   |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ CLEARED FOR ALL SPORTS WITHOUT RESTRICTION  |   |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ NOT CLEARED Duration:   |   |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOT CLEARED PENDING FURT  | HER EVALUATION  | Duration:  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CLEARED FOR ALL SPORTS WITHOUT RESTRICTION WITH RECOMMENDATIONS FOR FURTHER EVALUATION OR TREATMENT FOR:  |   |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CLEARED WITH RESTRICTIONS/ADAPTATIONS/ACCOMMODATIONS  Duration:   |   |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ■ NO CONTACT SPORTS: includes basketball, competitive cheerleading, diving, field hockey, football (tackle), gymnastics, ice hockey, lacrosse, rugby, soccer, stunt, wrestling  NO LIMITED CONTACT SPORTS: includes baseball, cross-country skiing, fencing, flag football, handball, high jump, ice skating, pole vault, skiing, softball, volleyball  NO NON-CONTACT SPORTS: includes baseball, cross-country skiing, archery, badminton, bowling, cricket discus, double dutch, golf, javelin, ra walking, rifle, shot-put, swimming, ta tennis, track & field |   |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OTHER RESTRICTIONS  |   |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC   | CCOMMODATIONS/PROTECTIVI  | EQUIPMENT   |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ None □ Athletic Cup □ Sports/Safety Goggles □ Medical/Prosthetic Device □ Pacemaker □ Insulin Pump/Insulin Sensor □ Brace/Orthotic □ Hearing Aides □ Protective Ear Gear □ Other  |   |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PERTINENT MEDICAL HISTORY_  |   |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALLERGIES   |   |  |  | □ None                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M  | EDICATIONS  |   |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Has prescribed pre-exercise medica  | ation   |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Has prescribed PRN medication   |   |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Student is Self-Carry/Self-Administer   | r, unless in an emerge                                    | ency or student is i   | ncapable of self-adminis   | tration                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ex   | planation   |   |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OTHER RECOMMENDATIONS _   |   |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I have examined the above named student and completed the pre-participation physical examination. The athlete may/may not participate in the sport(s) as outlined above. A copy of the physical exam will be provided to the school medical room staff and can be made available to the school administration at the request of the parents. This form may be rescinded: by a medical provider if there are any changes in the student's health that could affect his/her safe participation in sports, and/or until the potential consequences of the health issue are explained to both the student and his/her parents, and the health issue has been resolved. All information and recommendations contained herein are valid through the last day of the month for 12 months from the date below. |   |   |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | if there are any changes in the stude consequences of the health issue are e  | nt's health that could affe<br>xplained to both the stude | ct his/her safe partici<br>nt and his/her parents,                             | pation in sports, and/or until and the health issue has beer   | the potential resolved. All |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | if there are any changes in the stude consequences of the health issue are e  | nt's health that could affe<br>xplained to both the stude | ct his/her safe partici<br>nt and his/her parents,                             | pation in sports, and/or until and the health issue has beer   | the potential resolved. All |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nar  | if there are any changes in the stude<br>consequences of the health issue are e<br>information and recommendations con  | nt's health that could affe<br>xplained to both the stude | ct his/her safe partici<br>nt and his/her parents,<br>ough the last day of the | pation in sports, and/or until<br>and the health issue has beer<br>month for 12 months from the                  | the potential resolved. All |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nar  | if there are any changes in the stude consequences of the health issue are e information and recommendations comme of medical provider (print/type)   | nt's health that could affe<br>xplained to both the stude | ct his/her safe partici<br>nt and his/her parents,<br>ough the last day of the | pation in sports, and/or until<br>and the health issue has been<br>e month for 12 months from the<br>License/NPI | the potential resolved. All |  |  |  |  |  |  |  |  |  |